



سوال

عیدین کے متعلق تفصیل

جواب

سوال: السلام علیکم، کیا عید کے دن گئے منابذعت ہے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خطبے کے دوران الکزی کا عصا ہاتھ میں رکھتے تھے؟ اردو لکھنے میں کچھ بھول ہوئی، تو معاف کر دینا (عصا) و سلام

جواب: شیخ صالح المنجد اس بارے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:
سوال: عید کے روز کیے جانے والے آداب اور سنتیں کیا ہیں؟

الحمد للہ:

مسلمان شخص کے لیے عید کے روز مندرجہ ذیل کام کرنے مسنون ہیں:

1- نماز عید کے لیے جانے سے قبل غسل کرنا
موطا امام مالک وغیرہ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ:

"ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید گاہ جانے سے قبل غسل کیا کرتے تھے"

موطا امام مالک حدیث نمبر (428).

نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز عید کے لیے غسل کے استحباب پر علماء کرام کا اتفاق ذکر کیا ہے

جس بنا پر جمعہ المبارک اور اس طرح عام اجتماعات میں جانے کے لیے غسل کرنے کا جو سبب اور باعث ہے وہی سبب اور معنی عید میں بھی پایا جاتا ہے، بلکہ عید میں تو یہ سبب اور بھی زیادہ ظاہر ہے

2- عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ نہ کھا کر جانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد کھانا:

عید کے آداب میں ہے کہ نماز عید الفطر کے لیے جانے سے قبل کچھ نہ کھانا چاہیے حتیٰ کہ چاہے چند کھجوریں ہی کھوں نہ کھائی جائیں

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھجوریں کھانے سے قبل نماز عید کے لیے نہیں جاتے تھے، اور کھجوریں طاق (یعنی ایک یا تین) کھاتے"



صحیح بخاری حدیث نمبر (953).

نماز عید الفطر سے قبل کچھ کھا کر جانا اس لیے مستحب کیا گیا ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے، اور یہ روزے ختم ہونے کی نشانی ہے
ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیل بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ: اس میں روزے زیادہ کرنے کا سد ذریعہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع اور پیروی ہے

دیکھیں: فتح الباری (446/2).

اور جسے کھجور بھی نہ ملے تو اس کے لیے کوئی بھی چیز کھانا مباح ہے

لیکن عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ نماز عید سے قبل کچھ نہ کھایا جائے، بلکہ نماز عید کے بعد قربانی کر کے قربانی کا گوشت کھائے، اور اگر قربانی نہ کی ہو تو نماز سے قبل کھانے میں کوئی حرج نہیں

3- عید کے روز تکبیر میں کننا:

عید کے روز تکبیر میں کننا عظیم سنن میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت تمہیں دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

ولید بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: میں نے اوزاعی اور مالک بن انس سے عید میں بلند آواز سے تکبیر میں کہنے کے مستحق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے:

"جی ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر کے روز امام کے آنے تک بلند آواز سے تکبیر میں کہتے تھے"

اور عبد الرحمن بن سلمیٰ سے صحیح روایت کے ساتھ ثابت ہے کہ:

"عید الاضحیٰ کی نسبت وہ عید الفطر میں زیادہ شدید تھے"

و کج رحمہ اللہ کہتے ہیں: یعنی تکبیروں میں

دیکھیں: ارواء الغلیل (122/3).

دارقطنی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ: ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز عید گاہ آنے تک تکبیر میں کہتے، اور وہاں آکر بھی امام کے آنے تک تکبیر میں کہتے رہتے تھے

ابن ابی شیبہ نے زہری سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ:

"جب لوگ گھروں سے نکلنے تو عید گاہ پہنچنے تک بلند آواز کے ساتھ تکبیر میں کہتے، حتیٰ کہ جب امام آجاتا تو لوگ تکبیر میں کہنا ختم کرتے اور جب امام تکبیر میں کہتا تو لوگ بھی تکبیر میں کہتے"

دیکھیں: ارواء الغلیل (121/2).



سلف رحمہ اللہ میں عید کے روز کھر سے نکلنے سے لیکر عید گاہ جانے اور امام کے آنے تک بلند آواز میں تکبیر میں کہنا معروف اور بہت ہی مشہور امر تھا، بہت سے مصنفین نے اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا ہے، جن میں ابن ابی شیبہ، عبدالرزاق، اور فریابی نے کتاب: "احکام العیدین" میں سلف کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے، جن میں نافع بن یصیر بھی شامل ہیں، وہ تکبیر میں کہتے اور لوگوں کے تکبیر میں نہ کہنے پر تعجب کرتے اور کہتے تم تکبیر میں کیوں نہیں کہتے؟

اور ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے:

لوگ گھروں نکل کر عید گاہ جانے اور عید گاہ میں امام کے آنے تک تکبیر میں کہا کرتے تھے

عید الفطر میں تکبیر میں کہنے کا وقت چاند رات سے شروع ہو کر نماز عید کے لیے امام کے آنے تک رہتا ہے

لیکن عید الاضحیٰ میں یکم ذوالحجہ سے شروع ہو کر آخری ایام تشریق کا سورج غروب ہونے تک رہتا ہے

تکبیر کے الفاظ یہ ہیں:

مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ:

"وہ ایام تشریق میں تکبیر میں کہا کرتے:

"اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر"

اور ابن ابی شیبہ نے ہی ایک روایت میں اسی سند کے ساتھ تین بار تکبیر کے الفاظ روایت کیے ہیں

اور محاملی نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں:

"اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر و اعلن، اللہ اکبر واللہ اکبر"

دیکھیں: ارواء الغلیل (126/3).

4- عید کی مبارکباد دینا:

عید کے آداب میں ایک دوسرے کو عید کے روز اچھے الفاظ میں مبارکباد دینا شامل ہے، چاہے اس کے الفاظ کوئی بھی ہوں، مثلاً ایک دوسرے کو یہ کہے: تقبل اللہ منا و منعم اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سے قبول فرمائے

یا عید مبارک یا اس طرح کے کوئی اور الفاظ کہیں جو مبارکباد کے لیے مباح اور جائز ہوں

یصیر بن نفیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:



عید کے روز جب نبی کریم صلی اللہ کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملنے تو وہ ایک دوسرے کو یہ الفاظ کہا کرتے تھے :

"تقبل منا ومنک" آپ اور ہم سے قبول ہو

ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں : اس کی سند حسن ہے

دیکھیں : فتح الباری (2/446).

لہذا عید کی مبارکباد دینا صحابہ کرام کے ہاں معروف تھی، اور امام احمد وغیرہ اہل علم نے اس کی رخصت دی ہے، مختلف مواقع پر مبارکباد دینے کی مشروعیت پر صحابہ کرام سے ثابت ہے، کہ جب کسی کو کوئی خوشی حاصل ہوتی مثلاً کسی شخص کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا تو صحابہ کرام اسے مبارکباد وغیرہ دیا کرتے تھے

اس میں کوئی شک نہیں کہ مبارکباد دینا مکارم اخلاق اور مسلمانوں کے مابین اہمیت حاصل ہوتی ہے

اور مبارکباد کے سلسلہ میں کم از کم یہ کہا جاسکتا ہے کہ : جو شخص آپ کو مبارکباد دے اسے آپ بھی مبارکباد دیں، اور جو شخص خاموش رہے آپ بھی اس کے لیے خاموشی اختیار کریں

جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے :

"اگر مجھے کوئی شخص مبارکباد دیتا ہے تو میں بھی اسے مبارکباد کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں اس کی ابتدا نہیں کرتا"

5- عید کے لیے خوبصورتی اور بھالباہاس پہننا :

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ :

"عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار سے ایک ریشمی جبہ فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر عرض کیا :

"اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرید لیں تاکہ آپ اسے عید کے روز اور روزِ فود کو ملنے کے لیے بطور خوبصورتی پہننا کریں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"یہ تو اس کے لیے ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں "

صحیح بخاری حدیث نمبر (948).

اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے خوبصورتی اختیار کرنے پر انکار نہیں کیا بلکہ اس کا اقرار کیا، لیکن اس جبہ کو خریدنے سے انکار کیا کیونکہ وہ ریشمی تھا

جاہل زمانہ میں اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ :

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے روز زیب تن کیا کرتے تھے"

صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر (1765).



اور بیعتی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ: ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے لیے اپنا خوبصورت ترین لباس زیب تن کیا کرتے تھے

اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ عید کے لیے خوبصورت ترین لباس زیب تن کرے

لیکن جب عورتیں جب عید کے لیے جائیں تو وہ زیب و زینت سے اجتناب کریں، کیونکہ انہیں مردوں کے سامنے زینت کے اظہار سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح باہر جانے والی عورت کے لیے خوشبو لگانا بھی حرام ہے، تاکہ وہ مردوں کے فتنہ کا باعث نہ بنے، کیونکہ وہ تو صرف عبادت اور اطاعت کے لیے نکلی ہے

6- نماز عید کے لیے آنے جانے میں راستہ بدلنا

جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

"عید کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ تبدیل کیا کرتے تھے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (986).

اس کی حکمت کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ: تاکہ روز قیامت دونوں راستے گواہی دیں، روز قیامت زمین اپنے اوپر خیر اور شر کے عمل کی گواہی دے گی

ایک قول یہ ہے کہ: دونوں راستوں میں اسلامی شعار کا اظہار ہو

اور ایک قول یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ کا ذکر ظاہر کرنے کے لیے

اور یہ بھی کہ: یہودیوں اور منافقین کو غصہ دلایا جائے، اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی کثرت سے انہیں ڈرا یا دھمکا یا جاسکے

اور ایک قول یہ بھی ہے: تاکہ تعلیم اور فتویٰ اور اقتداء یا پھر ضرورت مندوں پر صدقہ وغیرہ کے ذریعہ لوگوں کی حاجتیں پوری ہوں، یا پھر اپنے رشتہ داروں کی زیارت اور ان سے صلہ رحمی ہو

واللہ اعلم۔